



سوال

(640) میرے دادا مرحوم نے ایک مکان وراثت میں چھوڑا.. الخ

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میرے دادا مرحوم نے ایک مکان وراثت میں چھوڑا جس میں ایک بیٹا اور دو بیٹیاں وارث ہیں، دونوں بیٹیاں اور بیٹا صاحبِ اولاد ہیں۔

مذکورہ مکان میں بیٹلپنے اہل خانہ کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ ۱۹۵۳ء میں بھائی نے بہنوں سے اجازت طلب کی کہ مجھے مکان مذکور کی تعمیر کی اجازت دیں تو میں ان کا حصہ وراثت بعد میں ادا کر دوں گا۔ کیونکہ مکان کی حالت خستہ تھی جس پر دونوں بہنوں نے بھائی کو اجازت دے دی۔ ۱۹۹۳ء میں بھائی کا انتقال ہو گیا اور ۱۹۹۸ء میں ایک بہن بھی انتقال کر گئی۔ اب دونوں بہنوں کو مکان کا حصہ ادا کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حصہ کس شرح سے ادا کیا جائے؟ پرانے مکان کی موجودہ قیمت کے حساب سے یا نئے کی قیمت کے حساب سے کیونکہ مکان کی تعمیر کا سارا خرچ بھائی نے خود اپنی گرہ سے کیا تھا اور جو بہن انتقال کر گئی ہے اس کا حصہ کیا اس کے بچوں کو ادا کیا جائے گا؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بھائی کی تعمیر سے قبل مکان جس حالت میں تھا اس حالت میں مکان کی موجودہ قیمت لگائی جائے گی۔۔ پھر اس وقت سے لے کر تقسیم تک اس مکان کا کرایہ لگایا جائے گا۔ وہ بھی وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ الایہ کہ وارث از خود بلا جبر و اکراہ مکان میں رہائش والے وارث کو کرایہ چھوڑ دیں۔

انتقال کر جانے والی بہن کا حصہ اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ ۱۴۲۱ھ

[قرآن وحدیث کی روشنی میں احکام ومسائل](#)

جلد 02 ص 534



محدث فتویٰ